

ROOTWORDS OF SURAH AL AN'AM 94-99

رَعَمْ + تُمْ	وَرَآءَ	خَوَّلْ + نَا + كُمْ	فُرَادَى	جِئْ + تُمُو + نَا
زع م + ضمير	ور آي	خ ول + ضمير + ضمير مفعول به	فرد	ج ي أ + ضمير + ضمير مفعول به
گمان کیا کرتے تھے تم زعم رکھتے تھے تم	پچھے	دیا ہم نے تم کو	تہا۔ اکیلے	آگئے + تم + ہمارے پاس
you claimed	behind	We bestowed (on) you	alone	you have come to Us

سَكَنًا	الْأَصْبَاحُ	النَّوَى	الْحُبُّ	فَالِقُ
س ک ن	ص ب ح	ن و ي	ح ب ب	ف ل ق
باعت سکون	صح کا	لھٹلی	دانے کو	پھڑنے والا ہے
(for) rest	(of) the daybreak	and the date-seed	(of) the grain	(is the) Cleaver

فَمُستَقِرٌ	أَنْشَأَ + كُمْ	فَصَلْ + نَا	الْبَرِّ	حُسْبَانًا
حرف + ق ر ر	ن ش أ + ضمير	ف ص ل + ضمير	ب ر ر	ح س ب
پھر (مقرر کی) رہنے کی جبکہ	جس نے پیدا کیا تم کو	کھول کھول کر رکھ دیں ہم نے	خشکی	حساب کا ذریعہ
so (there is) a place of dwelling	(has) produced you	We have made clear	(of) the land	(for) reckoning

حَبَّا	خَضِرًا	نَبَاتٌ	يَفْقَهُونَ	مُسْتَوْدَعٌ
ح ب ب	خ ض ر	ن ب ت	ف ق ه	ودع
دانے	سبزہ	پیدوار	جو سمجھتی ہو	سپرد کیے جانے کی جگہ
grain -	green plant	vegetation	(who) understand	a resting place

دَانِيَةٌ	قِنْوَانُ	ظَلْعٌ+ها	النَّخْلٌ	مُتَرَاكِبًا
د ن و	ق ن و	طل ع + ضمير	ن خ ل	رک ب
لکھتے ہوئے	گچھے	اس کے شگونوں	کھجور	ایک پر ایک چڑھتے ہوئے
hanging low	clusters of dates	its spathe	the date-palm	thick clustered

ثَمَرٍ+هِـ	مُشْتَبِهًـا	الرُّمَان	الْزَيْتُونَ	أَغْنَابٌ
ث م ر + ضمير	ش ب ه	رم ان	زي ت	ع ن ب
چھلوں کی + اس کے	کچھ ملئے جلتے	انار کے	زیتون کے	انگوروں
its fruit	resembling	the pomegranates	the olives	grapes

يَنْعِ ^{هـ}	أَثْمَرٌ
يِنْعِ ^{هـ} ضَمِيرٍ	ثُمَرٌ
پکنے کی طرف ^{هـ} اس کے	وہ پھل لائے
and its ripening	it bears fruit